

## تعلقات عامہ دفتر

### جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی

June 24, 2022

#### پریس ریلیز

### جامعہ ملیہ اسلامیہ نے یونیورسٹی عہدیداران کے لیے انتظامی صلاحیت سازی کا پانچ روزہ تربیتی پروگرام منعقد کیا

جامعہ ملیہ اسلامیہ نے انسٹی ٹیوٹ آف سیکریٹریٹ ٹریننگ اینڈ مینجمنٹ (آئی ایس ٹی ایم) کے اشتراک سے یونیورسٹی کے اعلیٰ عہدیداروں کے لیے یو جی سی-مرکز برائے فروغ انسانی وسائل (یو جی سی-ایچ آر ڈی سی) جامعہ ملیہ اسلامیہ میں مؤرخہ بیس جون دوہزار بائیس سے چوبیس جون دوہزار بائیس کے دوران ایک پانچ روزہ انتظامی صلاحیت سازی کا تربیتی پروگرام منعقد کیا۔ پروگرام کا مقصد فیکلٹی اراکین اور انتظامی اہل کاروں کی انتظامی صلاحیتوں کو صیقل کرنا تھا تاکہ یونیورسٹی میں کام کاج کا طریقہ مزید بہتر اور مؤثر ہوسکے۔

پروفیسر نجمہ اختر، شیخ الجامعہ، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے اپنی افتتاحی تقریر میں یونیورسٹی کے اساتذہ اور عہدیداروں کے لیے اس تربیتی پروگرام کی معنویت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ علمی کاموں میں بہتر بن رہے ہیں لیکن اس طرح کی صلاحیت سازی کا کوئی تربیتی پروگرام جامعہ میں پہلی مرتبہ منعقد ہو رہا ہے۔ اس تربیتی پروگرام سے انہیں انتظامی امور کو بہتر انداز میں انجام دینے میں اور قائدانہ کرداروں کو نبھانے میں مدد ملے گی۔

پروفیسر انیس الرحمان، نوڈل آفیسر، ڈائریکٹر یو جی سی-ایچ آر ڈی سی، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے مہمان خصوصی پروفیسر ناظم حسین الجعفری، مسجل جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ساتھ ساتھ پروگرام میں شریک تمام مندوبین کا خیر مقدم کیا۔

پروفیسر ناظم حسین الجعفری، مسجل، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اظہار تشکر کے ساتھ افتتاحی اجلاس اختتام پزیر ہوا۔ انہوں نے شیخ الجامعہ، جامعہ ملیہ اسلامیہ کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے یونیورسٹی عہدیداروں کی تربیت کے لیے نئی پہل کی ہے۔

پانچ دن کے پروگرام کے دوران آئی ایس ٹی ایم سے جناب ر نجن کمار، پروفیسر ایل۔ آر۔ اگروال، جناب ارون گور، جناب کے کے پنت، جناب راجیو کے جھا نے تادیبی کارروائی، انکوائری اور جرمانہ کیسے عائد کیا جائے، خریداری کی کارروائی اور قانونی معاملات سے متعلق مختلف امور پر شرکاء سے بات چیت کی۔

ڈپارٹمنٹ آف پرسنل اینڈ ٹریننگ، گورنمنٹ آف انڈیا کے تحت آئی ایس ٹی ایم ایک اعلیٰ ادارہ ہے جسے مرکزی حکومت کے عہدیداروں اور مرکزی حکومت میں ڈیپوٹیشن پر آنے والے اہل کاروں کی صلاحیت سازی اور تربیت کی ذمہ دارے سونپی گئی ہے۔ تربیت کاروں کی تربیت اور قومی و بین الاقوامی ٹرینر کورسز کے میدان میں یہ ایک سرکردہ ادارہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آئی ایس، آئی ای ایس، آئی ایف ایس اور آئی سی ایل ایس جیسی باقاعدہ ملازمتوں کے پروبیشنرز بھی آئی ایس ٹی ایم کے تربیتی پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں۔

تعلقات عامه  
جامعه مليه اسلاميه نئی دہلی